


1 کم از 6 گھنٹے تک پانی مت استعمال کریں۔



- اس میں برتن دھونا، ٹائلٹ کا فلش ٹینک چلانا یا پینے کا پانی بھرنا شامل ہے۔
- اگر آپ کو اس دوران پانی درکار ہے تو دیگر کوئی برتن بھر کے رکھ لیں۔
- اگر اس عمارت میں ایک سے زیادہ خاندان رہتے ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ دوسرے اپارٹمنٹس میں بھی پانی کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔

2 نمونے کا ایک مقام منتخب کریں



- غیر فلٹر شدہ پانی کا نمونہ باورچی خانے یا باتھ روم کے سنک کی ٹوٹی سے لیا جانا چاہیے اور مقام کو چین آف کسٹڈی (Chain-of-Custody) فارم پر درج کیا جانا چاہیے۔
- اگر منتخب کردہ ٹوٹی پر ایئرپیٹر (aerator) لگا ہوا ہے (جو کہ ٹوٹی کے منہ پر لگی جالی ہوتی ہے)، تو اسے اپنی جگہ پر لگا رہنے دیں۔
- اگر ٹوٹی پر پیچھے فلٹر لگا ہوا ہے تو اسے اتار دیں یا اسے بائی پاس کر دیں۔

3 نمونہ # 1 حاصل کریں پہلا پانی لینا



- بوٹل # 1 (زرڈ لیبل) سنک کی ٹوٹی کے نیچے رکھیں اور صرف ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کھول دیں۔
- بوٹل # 1 پوری سے نرا کم بھریں۔ مضبوطی سے ڈھکن لگا دیں۔
- ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کھلی رہنے دیں۔
- پانی لینے کی تاریخ اور وقت بوٹل # 1 پر اور چین آف کسٹڈی (Chain-of-Custody) فارم پر لازمی لکھیں۔

4 نمونہ # 2 حاصل کریں 1-2 منٹ فلش کریں



- جب ٹھنڈا پانی 1 سے 2 منٹ چل جائے تو بوٹل # 2 (نارنجی لیبل) بھرنا شروع کریں
- بوٹل # 2 پوری سے نرا کم بھریں۔ مضبوطی سے ڈھکن لگا دیں۔
- پانی بند کر دیں۔
- پانی لینے کی تاریخ اور وقت بوٹل # 2 پر اور چین آف کسٹڈی (Chain-of-Custody) فارم پر لازمی لکھیں۔

5 چین آف کسٹڈی مکمل کریں



- لف شدہ چین آف کسٹڈی فارم مکمل کریں، چاہے آپ نے یہ پہلے بھی مکمل کیا ہو۔
- 'نمونہ لینے کی معلومات' (1 سے 4) مکمل طور پر بھریں ورنہ شاید آپ کے نمونے کا تجزیہ نہ کیا جائے۔
- سوالنامے (5 سے 12) کا اپنے علم کے مطابق بہترین جواب دیں۔ اگر آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے/سکتیں تو 'معلوم نہیں' پر نشان لگائیں یا خالی چھوڑ دیں۔
- نیچے دستخط کریں اور تاریخ ڈالیں۔
- دوسرا صفحہ اپنے ریکارڈ کے لیے سنبھال لیں۔

6 نمونے فوری طور پر واپس بھجوانیں



- بھری ہوئی بوٹل # 1 اور بوٹل # 2 کو فراہم کردہ پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالیں، اسے سربرمہر کریں اور سربرمہر شدہ تھیلا اور مکمل شدہ چین آف کسٹڈی (Chain-of-Custody) فارم ڈبے میں رکھیں۔
- پیکنگ ٹیپ سے یا اندر موجود براؤن ٹیپ کو نمدار کر کے ڈبے کو سیل کریں۔
- مرچنڈائز ریٹرن لیبل (Merchandise Return Label) کا پچھلا کاغذ اتاریں اور اسے ڈبے کے باہر پتہ کے موجودہ لیبل پر چسپاں کریں۔
- ڈبے کو USPS کے کسی بھی ڈاکخانے میں لے جائیں یا USPS کی جانب سے "پک اپ شیڈول کروا لیں"۔ ڈبے کو ڈاک کے نیلے ڈبے میں مت ڈالیں۔
- اگر ڈبہ وصول کئے جانے کے 2 ہفتوں کے اندر واپس موصول نہیں ہوا، تو نمونوں کا تجزیہ نہیں کیا جائے گا۔